



گھروں
میں آتشزدگی بجھانے
والے آلات کے متعلق
بنیادی معلومات

اگر اسے مناسب انداز سے استعمال کیا جائے تو آگ بجھانے والا پورٹیبل آلہ چھوٹی آگ کو بجھا سکتا ہے یا بڑی آگ پر قابو پا سکتا ہے تاوقتیکہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز (Fire & Emergency Services) نہ پہنچ جائیں۔

آگ بجھانے کی کوشش صرف مندرجہ ذیل صورتوں میں کریں:

- جب تمام لوگ عمارت سے نکل چکے ہیں اور 911 پر فائر ڈیپارٹمنٹ کو فون کیا جا رہا ہے۔
- آگ چھوٹی اور پھیل نہیں رہی اور دھواں اور گرمی خطرناک حد تک بڑھی ہوئی نہیں۔
- آپ کا آگ بجھانے والا آلہ اس آگ کے لیے کافی ہے جسے آپ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔
- آپ کو آگ کا مقابلہ کرنے کی اپنی صلاحیتوں کا انداز ہے اور یہ آلہ استعمال کرنے سے واقف ہیں۔

یاد رکھیں: آگ کو اپنے چاروں طرف نہ پھیلنے دیں۔ ہمیشہ اپنی پشت بچ نکلنے کے صاف راستے کی طرف رکھیں۔



نوٹ: آگ بجھانے

آگ بجھانے والا آلہ استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ لفظ "پاس" ("PASS") یاد رکھیں۔



P - لاکنگ پن کو کھینچیں
(Pull the Locking)
ضرورت ہو تو مروڑیں تاکہ لیور کھولنے کے لیے سیل توڑی جاسکے۔



A - نیچے رکھیں
(Aim Low)
آلے کی نوزل آگ کی بنیاد کی جانب رکھیں۔ (آگ سے محفوظ فاصلہ رکھیں۔)



S - دبائیں (Squeeze)
ہینڈل کے اوپر والے لیور کو تاکہ آگ بجھانے والے مواد کو چھوڑا جاسکے۔



S - سویپ کریں
(Sweep)
نوزل یا ہوز کو آگ کی بنیاد میں ایک سے دوسری طرف لے کر جائیں۔ اگر دوبارہ بھڑک اٹھے تو آلہ دوبارہ استعمال کریں۔

آگ کی جانب کبھی پشت نہ کریں -
چاہے آپ اسے بجھا ہوا ہی سمجھیں؛
یہ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔

گھروں میں لگنے والی آگ تین قسم کی ہوتی ہے۔

(یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس آگ بجھانے کے لیے متعلقہ آلہ موجود ہے۔)

پہلی قسم: معمولی کے آتش گیر

اس میں عام طور پر لکڑی، کپڑے، کاغذ اور پلاسٹک کی اشیاء شامل ہوتی ہیں۔

دوسری قسم: آتش گیر مائع جات اور گیسوں،

اس میں گیس، کھانا پکانے کے تیل اور پروپین شامل ہوتی ہے۔

تیسری قسم: چارج شدہ بجلی،

اس میں بجلی ملوث ہوتی ہے مثلاً وائرنگ، فیوز باکس، ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ سے۔

آگ بجھانے والا آلہ جس پر اے بی سی

(ABC) درج ہو کثیر المقاصد

(multi-purpose) اور آگ کی

مندرجہ بالا تینوں اقسام کو بجھانے

کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔



سز کو کال کریں۔

ہدایاتی لیبل پڑھیں: ہنگامی حالات یہ جاننے کا وقت نہیں کہ آگ بجھانے والا آلہ کیسے کام کرتا ہے۔

آلے کا سائز

آگ بجھانے والے پورٹیبل آلات جس آگ کو بجھانے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس کی نشاندہی آلے کے اوپر کی جاتی ہے۔ یہ نشاندہی آلے کے لیبل پر کی گئی ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر 2A:10B:C۔

ہندسی درجہ بندی جس قدر لمبی ہو گی آلہ بھی اسی قدر بڑی آگ پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہو گا۔ آلے پر ULC (Underwriters Laboratories of Canada) کا لیبل چیک کریں۔ ہم آگ بجھانے والا کثیر المقاصد اے بی سی آلہ تجویز کرتے ہیں جس کی ریٹنگ رہائشی عمارتوں کے لیے 2-A 10-B,C یا 3-A 40-B,C ہو۔

حدود

یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آگ بجھانے والے آلات بڑی اور پھیلتی ہوئی آگ پر قابو پانے کے لیے تیار نہیں کیے جاتے۔ آگ بجھانے والا ایک آلہ چہ سے دس سیکنڈ میں ختم ہو سکتا ہے۔

مقام

آگ بجھانے والے آلے کو ایسی جگہ رکھیں جہاں سے یہ باآسانی نظر آتا ہو اور اس تک پہنچا جا سکے۔ بہتر ہے کسی خارجی راستے کے قریب اور آگ کے ممکنہ ذریعے سے کم از کم دس فٹ کی دوری پر۔ اسے الماریوں اور سنک کے نیچے مت رکھیں۔

دیکھ بھال

مہینے میں ایک بار اپنے آگ بجھانے والے آلے کو چیک کریں اور یقینی بنا لیں کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ (تفصیلات کے لیے مینوفیکچرر کی ہدایات دیکھیں۔) آگ بجھانے والے آلات کو کسی ماہر سروس کمپنی سے سروس کرایا جانا چاہیے، چاہے یہ پوری طرح خالی نہیں ہوئے۔ (یلو پیجز (Yellow Pages) میں Fire Extinguishers کے نیچے دیکھیں۔)



مزید تفصیلات کے لیے
میسیسیوگا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

**Mississauga Fire &
(Emergency Services)**

پبلک ایجوکیشن

905-896-5908

یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ

<http://www.mississauga.ca/fire>

 **MISSISSAUGA**
Fire and Emergency Services
Leading today for tomorrow



231/2007